

حقائق:

# معذور افراد کے لیے رجسٹریشن معلومات

اُردو - Urdu

معذوروں کے کارکنان کی رضاکارانہ رجسٹریشن کا آغاز 1 جولائی 2021 سے ہو رہا ہے۔ رجسٹریشن کا مقصد معذور افراد کی معاونت کے معیار اور انتخاب کو بہتر بنانا ہے۔ یہ وکٹوریہ کی حکومت کی معذور لوگوں کیساتھ بدسلوکی کے سلسلے میں "صفر برداشت" کی سوچ کا جزو ہے۔

بورڈ کارکنان کی رجسٹریشن کے لیے موزونیت کی تشخیص کرتے وقت یہ بھی مدنظر رکھے گا:

- کوئی ایسی خرابی جو کسی شخص کی محفوظ طور پر پریکٹس کرنے پر مضر اثر ڈال سکتی ہو
- متعلقہ مجرمانہ ہسٹری
- انگریزی زبان پر مہارت
- بطور ڈس ایبیلیٹی یا ہیلتھ ورکر رجسٹریشن کی منسوخی یا معطلی
- صحت یا ڈس ایبیلیٹی خدمات یا بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے حوالے سے حکم امتناعی یا پابندی کے احکامات
- کیا وہ شخص رجسٹر ہونے کے لیے ایک موزوں اور مناسب شخص ہے؟

## کیا میں ایک رجسٹر شدہ معذوروں کے کارکن کا انتخاب کرسکوں گا؟

آپ معذوروں کی خدمات فراہم کرنے کے لیے رجسٹر شدہ کارکنان کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لئے معذوروں کے درست کارکن کا انتخاب کرسکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس محفوظ پریکٹس کے لیے ضروری علم، مہارتیں اور صفات ہیں۔

## مجھے کیوں معذور افراد کے ایک رجسٹر شدہ کارکن کا انتخاب کرنا چاہیے؟

ان لوگوں کو جو معذوروں کے لئے دستیاب خدمات استعمال کرتے ہیں، معذوروں کے کارکنان کی مہارت اور تجربے کا یقین دلانا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ معذوروں کے تمام کارکنان کی حفاظت اور اہلیت کے سلسلے میں ایک ہی طریقے سے تشخیص نہیں کی جاتی۔ رجسٹریشن آپ کی محفوظ اور اعلیٰ معیار کی خدمات تک بہتر رسائی میں مدد کرے گی۔ اس سے قطع نظر کہ انہیں کیسے فنڈ کیا جاتا ہے یا ملازمت دی جاتی ہے، رجسٹر شدہ وکٹورین معذوروں کے کارکنان کی بطور محفوظ، مہارت یافتہ، اور پیشہ ور کے طور پر آزادانہ تشخیص ان کا ریگولیشن، ڈس ایبیلیٹی ورکر رجسٹریشن بورڈ آف وکٹوریہ کرتا ہے۔

1 اکتوبر 2021 سے، آپ فوری طور پر اور آسانی سے معذوروں کے کارکنان کے رجسٹر کو [www.vdwc.vic.gov.au](http://www.vdwc.vic.gov.au) پر چیک کرپائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایک کارکن رجسٹر شدہ ہے۔

## کارکنان کو رجسٹر ہونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز ایکٹ 2018 (ایکٹ) رجسٹریشن کے درخواست گزاروں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس محفوظ پریکٹس کے لیے ضروری علم، مہارتیں اور صفات ہوں تاکہ انہیں بطور معذوروں کے کارکن کے ڈس ایبیلیٹی ورکر رجسٹریشن بورڈ آف وکٹوریہ (بورڈ) کیساتھ رجسٹر کیا جائے۔

ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز کوڈ آف کنڈکٹ کو ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز ریگولیشنز 2020 میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ اس ایکٹ کے تحت مرتب کیے گئے قواعد ہیں۔

وکتوریہ میں رہنے والے تمام معذوروں کے کارکنان پر لازم ہے کہ وہ ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی کریں اور اس میں معذور افراد کو نقصان اور بدسلوکی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک معیار دیا گیا ہے۔

## ڈس ایبیلیٹی ورکر رجسٹر

تمام رجسٹر شدہ معذوروں کے کارکنان کو وکتوریہ میں رہنے والے معذوروں کے کارکنان کے پبلک رجسٹر میں یہاں پر درج کیا جائے گا: [www.vdwc.vic.gov.au](http://www.vdwc.vic.gov.au)

آپ وکتوریہ میں رہنے والے معذوروں کے کارکنان کے پبلک رجسٹر میں اپنے نزدیک رہنے والے رجسٹر شدہ معذوروں کے کارکنان کو کرسکتے ہیں۔

اس ویب سائٹ پر آپ وکتوریہ میں رہنے والے معذوروں کے ان کارکنان کی فہرست بھی دیکھ سکیں گے جن کے خلاف کوئی ممنوعہ حکم جاری کیا گیا ہے۔

## اگر میں NDIS پلان پر ہوں تو کیا میں ایک رجسٹر شدہ معذوروں کے کارکن کا انتخاب کرسکتا/سکتی ہوں؟

جی ہاں، رجسٹر شدہ کارکنان برقسم کی تنظیموں میں کام کرسکتے ہیں، بشمول NDIS خدمت فراہم کنندگان، یا وہ خود اپنے کاروبار میں برسر روزگار ہوسکتے ہیں۔

رجسٹریشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وکتوریہ میں رہنے والے معذوروں کے کارکنان کی بطور محفوظ، مہارت یافتہ، اور پیشہ ور کے طور پر تشخیص کی جاتی ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ کا معذوروں کا کارکن کس خدمت فراہم کنندہ کے لیے کام کرتا ہے، کہاں وہ اپنی خدمات کی تشہیر کرتا ہے یا اس کی خدمات کے لیے مالی امداد کیسے ہوتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے NDIS پلان کے ذریعے ایک رجسٹر شدہ معذوروں کے کارکن کو منتخب کرسکتے ہیں۔

## کیا میں ایک غیر رجسٹر شدہ معذوروں کے کارکن کا انتخاب کرسکتا/سکتی ہوں؟

آپ کسی ایسے کارکن کو منتخب کرنے کا فیصلہ کرسکتے ہیں جو رجسٹر شدہ نہ ہو۔ وکتوریہ میں غیر رجسٹر شدہ کارکنان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں۔ وکتورین ڈس ایبیلیٹی ورکر کمشنر غیر رجسٹر شدہ کارکنان کو ضابطے کے تحت چلاتا ہے۔

## وکتورین ڈس ایبیلیٹی ورکر کمیشن کے بارے میں

وکتورین ڈس ایبیلیٹی ورکر کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے جسے معذور افراد کی بہتر حفاظت اور معذوروں کے لیے خدمات کا ایک محفوظ تر، مضبوط تر شعبہ قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے ذمہ دار ہے، جس کے ذریعے وکتوریہ میں معذور افراد کی مدد کرنے والے تمام کارکنوں اور شکایات سروس کے لئے کم از کم توقعات کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ شکایات اور نوٹیفیکیشنز کو قبول کرسکتا ہے اور اس کے پاس تحقیق کرنے اور ان کارکنان پر پابندی لگانے کے اختیارات ہیں جو لوگوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔

ہماری ویب سائٹ [vdwc.vic.gov.au](http://vdwc.vic.gov.au) پر جائیں یا 1800 497 132 پر کال کریں۔

ہمارے نیوز لیٹر کے لیے سائن اپ کریں۔

ہمیں فالو کریں

